

# Visit of Secretary (Economic Relations) to Addis Ababa, Ethiopia (October 04, 2022)

October 06, 2022

## سکرٹری (اقتصادی تعلقات) کا عدیس ابابا، ایتھوپیا کا دورہ (04 اکتوبر 2022)

06 اکتوبر، 2022

وزارت خارجہ میں سکرٹری (اقتصادی تعلقات) جناب دمو روی نے افریقی یونین کے ساتھ مشاورت اور حکومت ایتھوپیا سے ملاقات کے لیے 04 اکتوبر 2022 کو ایتھوپیا کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ جناب پونیت آر کنڈل، جے ایس (ای اینڈ ایس اے) بھی تھے۔

2. دورے کے دوران، سکرٹری (اقتصادی تعلقات) نے افریقی یونین کے ڈپٹی چیئرپرسن ڈاکٹر مونیکن سنزاباگنوا سے ملاقات کی تاکہ افریقی یونین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مشاورت میں افریقی یونین کے ساتھ ہندوستان کے تعاون سے متعلق امور کا احاطہ کیا گیا جس میں ہندوستان-افریقہ فورم سمٹ کے اگلے دور کے انعقاد کا امکان شامل تھا۔ دونوں فریقوں نے آئی اے ایف ایس کے انعقاد پر بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور کثیر الجہتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں افریقہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا گیا جن میں تجارت، سرمایہ کاری، ترقیاتی شراکت کے پروگرام، صلاحیت سازی اور تربیت شامل ہیں۔

3. دورے کے دوران سکرٹری (اقتصادی تعلقات) نے وفاقی جمہوری جمہوریہ ایتھوپیا کے خارجہ امور کے وزیر مملکت محترمہ ایمبسیڈر ٹیسفائی یلما سے بھی ملاقات کی تاکہ ہندوستان-ایتھوپیا دو طرفہ تعلقات میں مختلف پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، بشمول سیاسی تبادلے، ترقیاتی تعاون، تربیت اور صلاحیت سازی کے امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔

4. سکرٹری (اقتصادی تعلقات) نے عدیس ابابا میں ہندوستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام ہندوستانی کاروباری برادری کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں 100 سے زائد کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔

نئی دہلی

06 اکتوبر، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.